

سنة الفول

# اپریل فول

امّ عبد مینب

www.KitaboSunnat.com

مشرع علم و حکمت

ندیم نادون ڈاکخانہ اعوان نادون لاہور

0321-4609092



### پرل فول

|                  |       |               |
|------------------|-------|---------------|
| محمد عبدغنیب     | _____ | اہتمام        |
| مشریہ علم و حکمت | _____ | ناشر          |
| ۵۱۳۲۷            | _____ | اشاعت اول     |
| ۵۱۳۳۳            | _____ | زیر نظر اشاعت |
| 14/-             | _____ | قیمت          |

0321-4609092  
0300-4270553

ناشر: **مشریہ علم و حکمت**

کامران پارک زمینہ کالونی نزد منصورہ ملتان روڈ لاہور

ڈسٹری بیوٹر: **دائرتبلیغیہ**  
اقراء سترغزی سٹریٹ اردو بازار لاہور  
Ph.: 042-37361505-37008768  
Cell: 0333-4334804

☆ اسلام آباد مکان نمبر 264 گلی نمبر 90 سیکٹر 8/4 - اسلام آباد۔  
فون: 0300-5148847

## البلاغ

اسلام آباد

لاہور

شایر سٹریٹ F-8 مرکز اسلام آباد  
051-2281420.0300-5205050

عدنان پلازہ، حوالہ روڈ 10-G مرکز اسلام آباد  
051-2224146-7,0300-5205060

لوئر راولپنڈی پارک پلازہ چیمبل روڈ لاہور

042-35717842-3,0300-8880450

6GL بیوٹری ٹاور باغیچہ میں ماڈل ٹاؤن ٹک روڈ لاہور

042-35942233,35942277,0300-6112240

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## اپریل فول

ویلنٹائن ڈے ہو، بسنت یا اپریل فول، غیر مسلموں کے تہوار اور طور طریقوں کو جس طرح اندھا دھند مسلم عوام منا رہے ہیں، اس نے ان کے اندر سے دینی محبت، غیرت اور حمیت کی آخری رمق تک کھینچ لی ہے۔ غیر مسلم اقوام کی نقالی پر اترانے اور مر مٹنے والی مسلم نسل کی غفلت پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔

افسوس انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ یکم اپریل ہی کی تاریخ تھی جب اموی خلیفہ عبدالرحمن والی اندلس کے جانشینوں کو شاہ فرانس شارلمان کے ہاتھوں ایسی شکست سے دوچار ہونا پڑا جس کے آثار آج بھی اس خطے میں نمایاں ہیں۔ فرانسیسی عیسائیوں نے مسلمانوں کو چن چن کر اندلس کے گلی کوچوں میں اپنے نیزوں اور تلواروں کا نشانہ بنایا۔

اکثر مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور بعض نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے عیسائی ہونے کا اظہار کر دیا۔ بچے کھچے مسلمانوں کو بحری جہاز میں سوار کر کے انہیں چکمہ دیا گیا کہ تمہیں مسلمان ملک میں پہنچا

دیا جائے گا لیکن کیم اپریل منانے والی عیسائی قوم نے جب بحری جہاز سمندر کے وسط میں پہنچا تو مسلمانوں کو سمندر کی اتھاہ گہرائی میں دھکا دے کر انہیں فول کیا۔

یہ سلسلہ ابھی تک بھی ختم نہیں ہوا، ابھی تو ہر روز ان کی طرف سے ہمیں ایک نیا گھاؤ لگتا ہے لیکن ہم ہیں کہ اس کی ایک ایک ادا پر مرے جا رہے ہیں۔

وائے نا کامی متاعِ کارواں جاتا رہا

کارواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا

ام عبد فیب



## ”اپریل فول“ کیوں؟

اس کے بارے میں مختلف روایات مشہور ہیں! مثلاً

☆ ۱۲ مارچ کو جب دن رات برابر ہو جاتے ہیں تو موسم بہار کی آمد کی وجہ سے مختلف تقریبات منائی جاتی ہیں۔ اپریل فول بھی انہی تقریبات میں سے ایک ہے۔

☆ ”دی ورلڈ بک انسائیکلو پیڈیا“ The World Book نے اسے یورپین ممالک کی تقریبات کا ایک حصہ بتایا ہے۔ اس کی دی گئی معلومات کے مطابق! فرانس کا اپنا کیلنڈر اپریل سے شروع ہوتا تھا، جب فرانس میں 1564 میں نیا کیلنڈر ماہ جنوری سے شروع ہوا تو جو لوگ نئے کیلنڈر کو تسلیم نہیں کرتے تھے انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا اور ان پر پھبتیاں کئے کے ساتھ ساتھ بدسلوکی بھی کی جاتی۔

☆ بعض کے خیال کے مطابق یہ رسم بت پرستی کے آثار میں سے ہے جو آج بھی کسی قدر جدت کے ساتھ جاری و ساری ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ موسم بہار کی آمد پر منایا جاتا ہے۔

☆ روماں نے اپریل کی پہلی تاریخ کو اپنے معبود ”فینوز“ کے لیے میلہ کا

دن مقرر کیا۔ یہ معبودان کے نزدیک حسن و جمال، ہنسی مذاق اور سعادت کا معبود تصور کیا جاتا ہے۔

اس میلے میں کنواری اور شادی شدہ عورتیں اپنی جسمانی اور روحانی مصیبتیں اپنے معبود کے سامنے پیش کرتیں اور اس کے سامنے روتی اور گڑگڑاتی ہیں لیکن یہ کوشش کرتی ہیں کہ ان باتوں سے ان کے شوہر اور ان کے سرپرست واقف نہ ہوں۔ (اپریل فول کی تاریخی اور شرعی حیثیت از ڈاکٹر عاصم عبداللہ القریونی)

☆ سیکسن قومیں اس ماہ میں اپنے قدیم معبود ایسٹرا کا تہوار مناتی ہیں۔ عیسائی اس ”عمید فصیح“ کہتے ہیں۔ (بحوالہ سابق)

☆ بعض علاقوں میں شکار کا موسم شروع ہونے کے سبب دنوں میں بالعموم شکار نہیں ملتا۔ یہی وجہ بعد ازاں اپریل فول منانے کی بنیاد بن گئی۔ (دیکھئے عاصم بن عبداللہ القریونی کا مضمون، اپریل فول)

☆ اپریل لاطینی زبان کے لفظ اپریس (Aprilis) یا (Aperire) پر یز سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے ”پھولوں کا کھلنا کو نیلیں پھوٹنا“۔ قدیم رومی قوم موسم بہار کی آمد پر شراب کے دیوتا کی پرستش کرتی اور اسے خوش کرنے کے لئے لوگ شراب پی کر اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے کے لئے جھوٹ کا سہارا لیتے۔ یہ جھوٹ رفتہ رفتہ اپریل فول کا اہم حصہ بلکہ غالب حصہ

بن گیا۔

☆ ان سائیکلو پیڈیا انٹرنیشنل کے مطابق مغربی ممالک میں یکم اپریل کو عملی مذاق کا دن قرار دیا جاتا ہے۔ اس دن ہر طرح کی نازیبا حرکات کی چھوٹ ہوتی ہے اور جھوٹے مذاق کا سہارا لے کر لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔

☆ یورپی اقوام کا من پسند پرندہ ”کوکو“ جو دھیمے سروں میں گنگناتا ہے۔ اپریل کے آغاز میں منظر عام پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے اسکاٹ لینڈ کے لوگ بے وقوف بننے والے لوگوں کو ”کوک“ (بے وقوف، بے تکا، گھامٹر) کہتے ہیں۔

## اپریل فول پہلی بار کب منایا گیا؟

یہ حقیقت اپنی جگہ کہ اپریل فول پورٹین اور رومن تہذیب کا ایک قدیم مذہبی تہوار ہے لیکن دور حاضر میں اس کو جو رنگ دیا گیا اس کا آغاز کب ہوا؟

اخباری صحافت میں اس کا سب سے پہلا ذکر ڈریک نیوز لیٹر (Drace News Letter) نامی اخبار میں نظر آتا ہے۔ مذکورہ اخبار اپنی ۲ اپریل 1698 کی اشاعت میں لکھتا ہے کہ کچھ لوگوں نے یکم اپریل کو لنڈن ٹاور میں شیروں کے غسل کا عملی مظاہرہ کرانے کا اعلان کیا۔ (لیکن یہ صرف اعلان تھا عملاً ایسا نہیں کیا گیا اور دیکھنے کے لئے آنے والے لوگ ہونقوں کی طرح لوٹ گئے) (دیکھیے عاصم عبداللہ الفریونی کا مضمون اپریل فول)

اخبار ”المنج“ شمار نے 31 مارچ 1846 کو ایک اعلان شائع کیا جس میں لکھا تھا کہ کل یکم اپریل کو اسلجٹون (شہر کا نام) کے زرعی فارم میں گدھوں کی عام نمائش اور میلہ ہوگا۔ لوگ انتہائی شوق سے لپک لپک کر آئے اور نمائش کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ انتظار میں تھک کر چور ہو گئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ میلہ کب ہوگا؟ لیکن انہیں کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا۔ آخر انہیں بتایا گیا کہ جو لوگ نمائش دیکھنے میلے میں آئے ہیں وہ خود ہی..... ہیں۔ (بحوالہ اپریل فول، عاصم عبداللہ القریوتی)

### یورپی اقوام کا موسمی تہوار

مندرجہ بالا تصریحات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اپریل فول یورپی اقوام کا تہوار ہے اور اس کی بنیاد بہار کی دیوی کو خوش کرنے پر رکھی گئی ہے۔ یاد رہے کہ موسموں کی مناسبت سے تہوار منانے کا رواج تمام بت پرست اقوام میں پایا جاتا ہے۔

موسم بہار چونکہ پتوں اور شگوفوں کے کھلنے کا موسم ہوتا ہے نیز اس موسم میں جسم میں نئی تازگی، روح میں کیف و انبساط اور جذبات میں تفریح منانے کی پانچل پیدا ہوتی ہے۔ لہذا بہار کی دیوی کو خوش کرنے کے لئے بت پرست قومیں اس کی آمد پر خصوصی تہوار مناتی ہیں۔

چنانچہ ہندو ہولی مناتے ہیں جس میں دوسروں پر ہنسی مذاق میں رنگ



پھینکا جاتا ہے۔ شراب اور رقص سے دل بہلانے کے علاوہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کی جاتی ہیں۔ بسنت پر مختلف پتنگیں اڑا کر اور بسنتی کپڑے پہن کر بہار کی دیوی کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اہل ایران کے ہاں جشن نوروز بھی موسم بہار ہی کا تہوار ہے۔ یہودی موسم بہار کی آمد پر عید فصح مناتے ہیں۔

(تفصیل کے لیے دیکھئے! برسیاں اور سال گرہیں مشرق کا تہوار ہیں بہ قلم محمد اسلم مرحوم)

ایڈیٹر المذہب مطبوعہ، الاعتصام)

غیر مسلم اقوام جب کوئی مسرت کا جشن مناتی ہیں جو کام ان کے دھرم یا مذہب کے مطابق عام دنوں میں نازیبا، ممنوع یا غیر اخلاقی سمجھا جاتا ہے۔ تہوار کے روز اس سے یہ پابندی اٹھ جاتی ہے چونکہ یہ ان کی مذہبی روایات کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ لہذا وہ اس آزادی سے دل کھول کر فائدہ اٹھاتے ہیں..... اور سنگین ترین گناہ تک کر جاتے ہیں۔

**غیر مسلموں کے تہوار اور اسلام**

دورِ حاضر میں مسلم ممالک کے عوام بھی اس دن کو منانے میں انگریزوں کے ساتھ ساتھ ہیں اور ایسے سنگین مذاق کرتے ہیں جس سے اکثر اوقات اموات بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ آئیے دیکھیں! اسلامی تہذیب و تمدن میں اس کی گنجائش ہے بھی یا نہیں؟

☆ اسلام میں موسم کی مناسبت سے کوئی بھی تہوار منانے کی اجازت

نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں شمسی کیلنڈر پر اعتماد نہیں کیا گیا بلکہ اسلام میں تہوار کی بنیاد کسی اہم عبادت پر ہے۔ مثلاً رمضان کے بعد عید الفطر اور حج کے بعد عید الاضحیٰ اور یہ دونوں قمری تقویم سے مربوط ہیں۔

☆ رسول ﷺ نے جشن کے صرف دو دن مقرر کیے۔ چنانچہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب رسول ﷺ مدینہ آئے تو ان کے ہاں دو دن مقرر تھے جن سے وہ کھیلتے اور خوشیاں مناتے۔ آپ نے ان کے بارے دریافت فرمایا۔ عرض کیا گیا ”ہم جاہلیت سے یہ دن مناتے چلے آ رہے ہیں“۔ آپ نے فرمایا!

وقد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما: یوم الفطر ویوم الاضحی۔ (صحیح سنن نسائی، ۱۳۶۵)

”اللہ نے تمہیں اس سے بہتر دو دن عطا کیے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ“ اگر جاہلیت کے یا غیر مسلموں کے تہوار منانے کی کوئی گنجائش ہوتی تو آپ ﷺ وضاحت کر دیتے۔ آپ ﷺ کی زندگی میں مشرکوں کے بہت سے تہوار آئے لیکن آپ نے کبھی ان میں حصہ نہیں لیا۔

☆ آپ ﷺ نے فرمایا! ”اللہ نے تمہیں اس سے بہتر دو دن عطا کیے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ“۔ معلوم ہوا کہ مسلمان کے لئے جشن یا مسرت کے دن اللہ نے نہ مقرر کیے ہیں جب کہ جاہلی اور غیر مسلم قوموں کے دن

خود ساختہ ہیں۔

☆ نیز یہ کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ تمام اقوام کے تہواروں سے برتر، اعلیٰ اور بہتر ہیں۔

☆ اسلام میں جو امور عام دنوں میں اخلاقیات کے حوالے سے حرام اور ناجائز قرار دیئے گئے ہیں وہ کسی تہوار کے روز بھی ممنوع اور ناجائز ہیں بلکہ تہوار کے احترام کی وجہ سے ان کی حرمت مزید بڑھ جاتی ہے۔ جب کہ غیر مسلم اقوام اپنے تہواروں میں حرام امور کا ارتکاب کرتی ہیں۔

☆ اپریل فول منانے والے لوگ حقیقت میں یورپی لوگوں کی طرح بہار کی دیوی کو خوش کرنے کا قبیح اور مشرکانہ فعل انجام دیتے ہیں کیونکہ اپریل فول کی بنیاد ہی یہی ہے۔

☆ غیر مسلموں کے تہوار منانے سے اہل اسلام کو سختی سے منع کیا گیا ہے بلکہ ان کی کسی بھی خاص عادت، مذہبی شعار اور جشن میں ان کی تقلید یا ان کی ہم نوائی کرنا ممنوع ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا!

من تشبه بقوم فهو منهم (مسند احمد ۲/۴۹، مشکوٰۃ، کتاب اللباس)  
”تحقیق جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اس میں سے ہے۔“

☆ نیز اہل اسلام کے لئے حکم ہے:-

اجتنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم۔ (البیہقی الکبریٰ ۲۳۳/۹)

”اللہ کے دشمنوں کے تہواروں میں ہر قسم کی شرکت سے اجتناب کرو۔“

☆ غیر مسلموں کے تہوار منانا تو ایک طرف ان کے تہواروں پر انہیں مبارک باد دینا بھی ممنوع ہے۔ (دیکھیے۔ فقہ عمر رضی اللہ عنہ، ص ۵۲۰)

## اپریل فول اور جھوٹا مذاق

☆ اپریل فول میں جھوٹ بول کر اور انتہائی سنگین مذاق کر کے دوسروں کو بے وقوف ہی نہیں پریشان کیا جاتا ہے مثلاً کسی کو اس کے قریبی عزیز کی وفات، حادثے یا مہلک بیماری کی خبر دینا۔ کسی جھوٹی خبر کا اعلان کرنا۔ کسی قریبی عزیز کی آمد کی جھوٹی خبر دینا، کسی مالی نقصان کی جھوٹی اطلاع دینا۔

بعض اوقات جسے فول کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ کسی حادثے کی خبر سن کر..... صدمے کے باعث جان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جس شخص نے فول کیا ہے کیونکہ وہ مرنے والے کی موت کا ذمہ دار ہے لہذا اس پر قتل کا مقدمہ کر کے اس سے مرنے والے کے ورثا کو دیت دلوانی چاہیے۔

جب کہ اسلام میں کسی حالت میں نہ بے ضرر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، نہ ضرر رساں جھوٹ بولنے کی۔

☆ سچ بولنا، اسلام کی بنیادی صفات میں سے ہے اور جھوٹ بولنا منافق کی خصلت، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جس آدمی میں چار خصلتیں ہوں وہ خالص منافق ہے اور جس میں ان چار میں سے ایک خصلت ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ (۱) جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے (۲) جب بات کرے تو جھوٹ بولے (۳) جب عہد کرے تو عہد شکنی کرے۔ (۴) جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔

(بخاری، کتاب الایمان، باب بیان خصال المنافق)

☆ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے اور اس کی وعید شدید ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا! ”میں نے گزشتہ رات ایک خواب دیکھا جس میں ایک شخص گے جڑے چیرے جارہے تھے۔ وہ دنیا میں بہت جھوٹ بولنے والا تھا جو جھوٹ بات کہہ دیتا سارے ملک میں پھیل جاتی قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ (بخاری، کتاب الادب)

## مذاق اور مزاح کا فرق

☆ اسلام میں بچے کو بہلانے کے لئے جھوٹ بولنا بھی درست نہیں چنانچہ لیلیٰ بنت خنسمہ کی والدہ نے اس سے کہا ”ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔“ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا! کیا دوں گی؟ انہوں نے کہا ”کھجور“۔ آپ نے فرمایا! ”اگر تم کچھ نہ دیتیں تو تمہارا یہ جھوٹ لکھا جاتا۔“

(سنن ابوداؤد کتاب الادب)

☆ اپریل فول میں مذاق کے طور پر جھوٹ بولا جاتا ہے لیکن اسلام نے مذاق میں یاد دوسروں پر ہنسے اور ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنے پر ہلاکت کی وعید سنائی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:-

”اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو بات بناتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ لوگوں کو ہنسانے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔“

(سنن ابوداؤد کتاب الادب، باب التمدید فی الکذب)

☆ اسلام میں خوش طبعی یا مزاح کرنا درست ہے لیکن یاد رہے کہ مذاق اڑانے یا کسی کو بے وقوف بنانے اور مزاح کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مزاح وہ ہے جس میں خوش طبعی کے طور پر ایک ایسی بات کہی جائے جس میں جھوٹ اور فریب بھی نہ ہو اور اس کا مفہوم ایسا ہو کہ سمجھ آجانے پر بے اختیار مسکراہٹ لبوں پر پھیل جائے۔ جس کی مثال یہ ہے کہ ایک بار ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ مجھے ایک اونٹنی دیجئے۔ آپ نے فرمایا! ”ہم تجھے اونٹنی کا بچہ دیں گے“۔ اس شخص نے کہا ”میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا“۔ رسول اللہ نے فرمایا! ”اونٹنی ہی تو ہراونٹ کو جنم دیتی ہے۔“

(جامع ترمذی، ماجاء فی المزاح، کتاب البر والصلہ)

**غیر مسلموں کے تہوار اور غضب کا نزول**

غیر مسلم چونکہ مشرکانہ عقیدے کے تحت..... مشرکانہ طور طریقے اور اللہ

کی نافرمانی اور ناپسندیدگی والے امور کے ذریعے جشن مناتی ہیں، اس لیے ان کی مسرت میں درحقیقت رب کریم کی طرف سے ان پر غضب کے تیر برس رہے ہوتے ہیں۔

غیر مسلموں کی خوشی پر خوش ہونا، خوشی منانا، انہیں مبارک بادینا یا کسی اور طریقے سے ان کے جشن کے کسی اہتمام میں شمولیت اختیار کرنا، رب کریم کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اگر آج ہم نے ان کے جشن میں شمولیت کر لی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوستی روز قیامت بھی ہمارے گلے کا پٹہ بن کر ہمیں ان کے ساتھ جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے۔

عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مشرکین کے تہواروں پر ان کی عبادت گاہوں میں داخل نہ ہوا کرو کیونکہ ان پر اللہ کی ناراضی اتر رہی ہوتی ہے۔ (سنن البیہقی - فقہ عمر رضی اللہ عنہ، ۵۲۰)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

المرء مع من احب (صحیح مسلم)

”آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔“

کافروں کے تہوار منانا یا ان میں شمولیت کرنا بعض صورتوں میں کفر، بعض صورتوں میں ارتداد، بعض صورتوں میں فسق ہے۔ ان تمام صورتوں کی نوعیت اور مسئلے کی وضاحت جاننے کے لیے کافرانہ تہوار اور ہمارا طرز عمل کا مطالعہ کیجیے۔

## ماخذ

- ☆ صحیح بخاری ☆ صحیح مسلم  
☆ سنن ابوداؤد ☆ سنن ترمذی  
☆ فقہ عمر رضی اللہ عنہ، محمد رواں قلجی، مطبوعہ ادارہ معارف اسلامی، لاہور۔

- ☆ آپ کے مسائل، مولانا مبشر احمد ربانی، دیکھیے اپریل فول  
☆ اپریل فول کی حقیقت، عاصم عبداللہ القریوتی، مدینہ منورہ  
☆ الاعتصام ہفت روزہ، دارالسلفیہ شیش محل روڈ لاہور۔



# مطبوعاتِ مشربہ علم و حکمت

ایمان کی ادنیٰ اشخاص

والفجر

نمازیں پڑھی جانے والی دعائیں

جسمانی حرکات اور شائستگی

دعا، اذکار اور انگلیاں

وہ خوش قسمت کھانے جو نبی ﷺ نے کھائے

بسم اللہ دعاء و شفاء

کھانے اور پینے کے آداب

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : [www.iqbalkalmati.blogspot.com](http://www.iqbalkalmati.blogspot.com)

0321-4213089

مشربہ علم و حکمت

کامران پارک زینبیہ کالونی نزد منصورہ ملتان روڈ لاہور



0321-4609092